

برائے فوری اجراء

## برامپٹن موسم گرما کی پرجوش تقریبات کے ساتھ اپنی گلدستہ نما کمیونٹی کا جشن منا رہا ہے

برامپٹن، آن (3 جون 2019) – سٹی آف برامپٹن تقریبات کے ایک سلسلے کے ساتھ موسم گرما کا آغاز کر رہا ہے، جن میں برامپٹن کی متنوع کمیونٹی کے جشن منائے جاتے ہیں! پورے جون اور جولائی کے مہینوں کے دوران ان خاندان دوست تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔

### کمیونٹی کی خدمات کو تسلیم کرنے کی تقریبات

کئی نئی تقریبات کے ساتھ برامپٹن کے بھرپور ثقافتی تنوع کو دیکھیں، جن میں پرچم کشائیاں، ثقافتی کھانے اور ثقافتی مظاہرے شامل ہیں۔ جون میں ایک واحد سیلی برامپٹن تقریب کی بجائے، برامپٹن اپنے تنوع کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پورے سال کے دوران نئی اور وسیع تر تقریبات کا انعقاد کر رہا ہے۔

یہ تقریبات رہائشیوں کے لیے دوسری ثقافتوں کے بارے میں جاننے اور ہمارے شہر کو بنانے والی کئی کمیونٹیز سے واقف ہونے کا بہترین موقع ہیں۔

کمیونٹی کی خدمات کے اعتراف کی درج ذیل تقریبات منعقد ہو رہی ہیں:

- **اٹلیئن بیریٹیج منٹھ | 9 جون | صبح 11 تا دن 2 | گیج پارک**  
پرچم کشائی اور باربی کیو کے ساتھ اٹلیئن بیریٹیج منٹھ منائیں۔
- **فلپائن بیریٹیج منٹھ | 13 جون | شام 5 تا رات 8 | سٹی ہال آٹریم**  
اس تقریب میں روایتی کھانوں کے نمونوں کا لطف اٹھائیں، بشمول مشہور میٹھا ہالو-ہالو (Halo-Halo) اور براہ راست مظاہروں سے لطف اندوز ہوں۔ رہائشیوں اور سیاحوں کو 11 جون کو صبح 9 بجے کین ولینز اسکوائر میں بھی دعوت دی جاتی ہے، جہاں ہم فلپائن کا پرچم لہرائیں گے۔
- **پورچوگیز بیریٹیج منٹھ | 15 اور 16 جون | دن 3 تا رات 11 اور دن 12 تا رات 9 | کین ولینز اسکوائر**  
15 جون کو دن 3 سے 4 بجے تک ثقافتی کھانوں اور تفریح کے ساتھ پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کریں، جس کے بعد گارڈن اسکوائر میں شام 4 سے رات 11 تک لوسوفونیا فیسٹیول منعقد ہو گا۔ یہ تقریبات 16 جون کو دن 12 سے رات 9 تک جاری رہیں گی۔

### فارمرز مارکیٹ کے افتتاح کا دن | 15 جون | صبح 7 تا دن 1 | مین اسٹریٹ بمقام کوئین

برامپٹن کے فارمرز مارکیٹ سیزن کو مقامی فنکاروں کی جانب سے براہ راست موسیقی، خاندانوں کے لیے سرگرمیوں اور فرینکی فلاورز کی جانب سے باغبانی کے مشوروں کے ساتھ شروع کریں۔ رہائشیوں اور سیاحوں کو 15 جون سے 12 اکتوبر تک ہر ہفتہ کے روز تازہ مقامی پیداوار اور ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں خریدنے کی دعوت دی جاتی ہے۔

### نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے | 21 جون | دن 12:30 تا 2، شام 6 تا رات 10 | گارڈن اسکوائر

دی انڈیجینس نیٹ ورک کی جانب سے پیشکش کردہ مظاہرے، رقص، کہانیوں اور مزید کے ساتھ نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے منائیں۔ دن 12:30 سے 2 بجے تک ایک تقریب اور کمیونٹی کے مظاہرے کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے بعد ڈی جے کلاسک روٹس اور اسکویے (DJ Classic Roots and iskwē) کی جانب سے شام 6 سے رات 10 کے درمیان براہ راست مظاہرہ پیش کیا جائے گا۔

### برامپٹن کینیڈا ڈے کو منا رہا ہے | 1 جولائی | دن 12 تا رات 10 | چنگواکوسی پارک

کینیڈا کے قیام کے دن پر برامپٹن کے سال کے سب سے بڑے جشن کا حصہ بنیں! پرلطف، خاندان دوست سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں، بشمول پھولنے والے جھولے، کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے والے بین الاقوامی وینڈرز، ٹم برٹنز کی جانب سے پیش کردہ آتش بازیوں کا ایک شاندار مظاہرہ۔ اس سال براہ راست تفریح میں شامل چیزوں کے باقاعدہ اعلان کے منتظر رہیں۔

برائیڈ ان دی اسکوائر | 7 جولائی | دن 2 تا رات 9 | گارڈن اسکوائر  
برامپٹن کی متنوع LGBTQ2SA کمیونٹیوں کو تمام عمر کے افراد کے لیے فن، مظاہروں اور پروگراموں کے ذریعے منائیں۔  
کمیونٹی کے کئی نمائش کاروں کو ملاحظہ کریں اور دوپہر سے لے کر شام تک براہ راست تفریح سے لطف اندوز ہوں، جس میں ہیڈ لائنر  
ٹو اٹیچڈ اور فنکار فئے اینڈ فلفی، فلائے لیڈی ڈی اور کوارٹر بیک شامل ہیں۔

ان اور آنے والی دیگر تقریبات کے متعلق مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca/events](http://www.brampton.ca/events) ملاحظہ کریں۔

#### اقتباس

"برامپٹن رہائشیوں اور سیاحوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے کئی انواع و اقسام کے میلے اور تقریبات کی پیشکش کرتا ہے۔ برامپٹن کا  
تنوع ملاحظہ کریں، زبردست کھانوں سے لطف اندوز ہوں، ایوارڈ یافتہ تفریح کار اور ابھرتے ہوئے مقامی فنکاروں کو دیکھیں اور ان تمام  
چیزوں کا جشن منائیں، جو مختلف کمیونٹیوں پر مشتمل پھولوں کے ایک گلدستہ کی مانند ہمارا شہر، پیش کرتا ہے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز  
عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  
کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  
ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)